

چوتھا مہینا، چوتھا ہفتہ، تیسرا دن	سلیبس: پیرا گراف (عائشہ: ڈاکٹر صاحبہ۔۔۔ رخصت ہو جاتی ہیں۔) ہم نے سیکھا، مشق: تفہیم (سوال نمبر 1, 2, 3, 4) قواعد: فعل متعدی
-----------------------------------	--

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

(3)

1- وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، کہلاتا ہے:

(الف)	فعل مُتَعَدٍ	(ب)	فعل لازم	(ج)	فعل امر	(د)	فعل نہی
-------	--------------	-----	----------	-----	---------	-----	---------

2- ہم حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کر کے:

(الف)	ترقی کر سکتے ہیں	(ب)	اچھی صحت پاسکتے ہیں
(ج)	آمدن بڑھا سکتے ہیں	(د)	اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں

3- بازاری کھانے عام طور پر تیار کیے جاتے ہیں:

(الف)	سستی اشیائے	(ب)	غیر معیاری اشیائے	(ج)	الف، ب دونوں	(د)	معیاری اشیائے
-------	-------------	-----	-------------------	-----	--------------	-----	---------------

4- گھر میں کوڑے کی باٹھی ایسی جگہ ہو:

(الف)	جہاں کوئی نہ آتا جاتا ہو	(ب)	جہاں پالتو پرندوں کا آنا جانا ہو
(ج)	جہاں پالتو جانوروں کا آنا جانا ہو	(د)	جہاں گھر کے افراد کا آنا جانا ہو

☆ مندرجہ ذیل عبارت پڑھ کر سوال نمبر 5 اور 6 کے جواب دیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ باہر کا کھانا کھانے والے زیادہ تر لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھانا تیار کرتے وقت بہت زیادہ پکنا نہیں چاہیے تاکہ غذائیں موجودہ ہم غذائی اجزاء ضائع نہ ہوں۔

5- باہر کا کھانا کھانے کا نتیجہ ہے:

(الف)	خراب صحت	(ب)	وقت کی بچت	(ج)	پیسے کی بچت	(د)	اچھی صحت
-------	----------	-----	------------	-----	-------------	-----	----------

6- کھانا تیار کرتے وقت کھانا پکانا چاہیے:

(الف)	زیادہ دیر تک	(ب)	کم وقت تک	(ج)	برابر وقت تک	(د)	مذکورہ تمام
-------	--------------	-----	-----------	-----	--------------	-----	-------------

سوال نمبر 2: فعل متعدی کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

(2)

سوال نمبر 3: کپڑوں کی صفائی کیا اہمیت رکھتی ہے؟

(2)

سوال نمبر 4: ہمارا باورچی خانہ کیسا ہونا چاہیے؟

(1)

سوال نمبر 5: کھانا تیار کرتے وقت کھانا زیادہ دیر کیوں نہیں پکانا چاہیے؟

(2)

چوتھا مہینا، چوتھا ہفتہ، تیسرا دن	سلیبس: پیرا گراف (عائشہ: ڈاکٹر صاحبہ۔۔۔ رخصت ہو جاتی ہیں۔) ہم نے سیکھا، مشق: تفہیم (سوال نمبر 1, 2, 3, 4) قواعد: فعل متعدی
-----------------------------------	--

سوال نمبر 1: درج ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔

(3)

1- وہ فعل جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، کہلاتا ہے:

(الف)	فعل مُتَعَدٍ	(ب)	فعل لازم	(ج)	فعل امر	(د)	فعل نہی
-------	--------------	-----	----------	-----	---------	-----	---------

2- ہم حفظانِ صحت کے اصولوں پر عمل کر کے:

(الف)	ترقی کر سکتے ہیں	(ب)	اچھی صحت پاسکتے ہیں
(ج)	آمدن بڑھا سکتے ہیں	(د)	اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں

3- بازاری کھانے عام طور پر تیار کیے جاتے ہیں:

(الف)	سستی اشیائے	(ب)	غیر معیاری اشیائے	(ج)	الف، ب دونوں	(د)	معیاری اشیائے
-------	-------------	-----	-------------------	-----	--------------	-----	---------------

4- گھر میں کوڑے کی باٹھی ایسی جگہ ہو:

(الف)	جہاں کوئی نہ آتا جاتا ہو	(ب)	جہاں پالتو پرندوں کا آنا جانا ہو
(ج)	جہاں پالتو جانوروں کا آنا جانا ہو	(د)	جہاں گھر کے افراد کا آنا جانا ہو

☆ مندرجہ ذیل عبارت پڑھ کر سوال نمبر 5 اور 6 کے جواب دیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ باہر کا کھانا کھانے والے زیادہ تر لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھانا تیار کرتے وقت بہت زیادہ پکنا نہیں چاہیے تاکہ غذائیں موجودہ ہم غذائی اجزاء ضائع نہ ہوں۔

5- باہر کا کھانا کھانے کا نتیجہ ہے:

(الف)	خراب صحت	(ب)	وقت کی بچت	(ج)	پیسے کی بچت	(د)	اچھی صحت
-------	----------	-----	------------	-----	-------------	-----	----------

6- کھانا تیار کرتے وقت کھانا پکانا چاہیے:

(الف)	زیادہ دیر تک	(ب)	کم وقت تک	(ج)	برابر وقت تک	(د)	مذکورہ تمام
-------	--------------	-----	-----------	-----	--------------	-----	-------------

سوال نمبر 2: فعل متعدی کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

(2)

سوال نمبر 3: کپڑوں کی صفائی کیا اہمیت رکھتی ہے؟

(2)

سوال نمبر 4: ہمارا باورچی خانہ کیسا ہونا چاہیے؟

(1)

سوال نمبر 5: کھانا تیار کرتے وقت کھانا زیادہ دیر کیوں نہیں پکانا چاہیے؟

(2)